

برائے فوری اجراء

موسم بہار کی خوشیوں کا آغاز ورچوئل سیڈی سیچرڈے اور گارڈن شو کے ساتھ کریں

برامپٹن، آن (1 مارچ 2021) – سٹی آف برامپٹن کا 9واں سالانہ سیڈی سیچرڈے اور گارڈن شو اس سال بروز پیر، مورخہ 13 مارچ کو صبح 10 بجے سے آن لائن طور پر منعقد ہو گا!

2021 کا ورچوئل سیڈی سیچرڈے اور گارڈن شو برامپٹن پارٹی کلچرل سوسائٹی کے اشتراک سے پیش کیا جا رہا ہے اور اس میں درج ذیل ماحولیاتی ماہرین کی باغبانی سے متعلق ویڈیوز بطور خاص پیش کی جائیں گی:

- ایلین ایڈلی کی جانب سے سکول فوڈ گارڈنز
- باب وائلڈ فانگ کی جانب سے ہیریٹیج فلاور گارڈنز
- فرینک فیریگین کی جانب سے بگنرز گائیڈ ٹو گروونگ فوڈ
- جوڈ رابرٹس کی جانب سے برنگنگ ہٹرفلائیز ہوم ٹو برامپٹن
- ورین بوش کی جانب سے گروونگ اینڈ یوزنگ ہرب
- لنڈا کراگو کی جانب سے ہیرلومز اینڈ سیڈ سیونگ
- سٹیون بگر کی جانب سے ایڈیبلز ان اربن لینڈسکیپس
- وکی سموک وک کی جانب سے مینیجنگ انویسو پلانٹس ان یونر گارڈن

چاہے آپ باغبانی میں نئے ہیں یا تجربہ بھی رکھتے ہیں، تو باغبانی کے وسائل تک رسائی حاصل کرنے، باغبانی کے مقامی فروخت کنندگان سے رابطہ کرنے، پرنٹ ایبل سرگرمیوں اور ویڈیو ٹیوٹوریلز کے ساتھ کٹز زون سے لطف اندوز ہونے کے لیے 13 مارچ کو www.brampton.ca/seedysaturday سے اپنے من پسند موضوعات کی خوب چھان بین کریں اور یہ بھی جانیں کہ برامپٹن ہارٹیکلچرل سوسائٹی کے ساتھ کرب سائیڈ میں بیج کے تبادلے میں کیسے حصہ لیا جائے اور مزید بہت کچھ۔

اس تقریب کا انعقاد [برامپٹن ہارٹیکلچرل سوسائٹی](http://www.brampton.ca/seedysaturday) کے اشتراک سے اور سیڈ آف ڈائیورسٹی کے تعاون سے کیا گیا ہے۔

اقتباسات

"میں سب کو بتاریخ 13 مارچ، اس سال کے ورچوئل سیڈی سیچرڈے اور گارڈن شو میں شامل ہونے کی ترغیب دیتا ہوں! برامپٹن ایک ماحول دوست شہر ہے جس کی توجہ استحکام اور بائیوڈائیورسٹی پر مرکوز ہے۔ اس پرکشش اور تعلیمی تقریب میں غذائی اشیاء کے استحکام کے بارے میں جانیں، ماہرین کے مشوروناور امدادی مواد کے علاوہ مزید بہت کچھ سیکھیں"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"اس سال سیڈی سیچرڈے اور گارڈن شو سے لطف اندوز ہونے کے لئے ہم ذاتی طور پر کسی جگہ پراکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں لیکن موسم بہار میں پودے لگانے اور اپنے شہر کو سرسبز رکھنے کے بارے میں جاننے کے لیے یہ آن لائن تقریب ہماری کمیونٹی کو جوڑنے میں نہایت مددگار ہو گی۔"

- رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"ہر درجے کی مہارت کے حامل باغبانوں کو ورچوئل سیڈی سیچرڈے اور گارڈن شو میں بھرپور شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ اس شعبہ کے ماہرین کی خصوصی ویڈیوز کے علاوہ – باغبانی کے مقامی فروخت کنندگان سے مربوط ہوں، بچوں کے لیے سرگرمیوں تک رسائی حاصل کریں اور مزید بھی بہت کچھ تمام لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے"

- چارمین ولیمز، سٹی کونسلر وارڈز 7 اور 8؛ وائس چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"ہم پہلی مرتبہ برامپٹن ہارٹیکلچرل سوسائٹی کے ساتھ 9ویں سالانہ سیڈی سیچرڈے اور گارڈن شو پیش کرنے کے لیے پر جوش ہیں۔ انہیں باغبانی، استحکام اور اس بارے میں جانیں کہ آپ ہماری کمیونٹی میں کیسے سرسبز طرز زندگی پر عمل کر سکتے ہیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے **ٹویٹر**، **فیس بک** اور **انسٹاگرام** پر رابطہ کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹس

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca